



سوال

(295) گھر کی خاص باتیں لوگوں کو بتانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر اور ازدواجی زندگی سے متعلقہ خاص باتیں بھی اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کو بتاتی ہیں حالانکہ ان میں کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ظاہر کرنا شوہر کو ناپسند ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بلاشبہ کچھ عورتوں کی یہ عادت کہ اپنے گھر اور ازدواجی زندگی کی باتیں اپنے اقارب اور سہیلیوں کو بتانا ایک حرام کام ہے اور کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے گھر کا راز یا شوہر کے ساتھ معاملات میں سے کچھ بھی کسی انسان کے سامنے ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

فَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالْوَظْفُ بِاللَّيْلِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ... سورة النساء ۳۴

"فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔"

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ

«إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»

"بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی سے جماع کرتا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرتی ہے پھر وہ شخص اس عورت (یعنی اپنی بیوی) کا راز (لوگوں میں ازراہ تفضن یا عمداً) پھیلاتا ہے۔" (مسلم 1437۔ کتاب النکاح باب تحریم افشاء سر المرأة الیوداؤد 4870۔ کتاب الادب

باب فی نقل الحدیث احمد 69/3) (شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

حداماً عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

ص 373

محدث فتویٰ